

Isa

Chapter 45

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

כֹּה־ یوں - H3541	אָמַר فرماتا-بے H0559	יְהוָה یہوواہ H3068	לְמַשִּׁיחוֹ اپنے-مسیح-سے H4899	לְכוֹרֶשׁ خورس-سے H3566	אֲשֶׁר- جس-کو- H2388	הַחֲזִיקָתִי میں-نے-تھاما H2388	כִּימִינֹו اُس-کے-دائیں-ہاتھ-سے H3225	
לְרֹד- مغلوب-کرنے-کو- H7286	לְפָנָיו اُس-کے-آگے H6440	גוֹזִים قوموں-کو H4975	וּמְתָנִי اور-کمروں-کو H4975	מְלָכִים بادشاہوں-کے H4428	אֶפְתָּח میں-کھولوں-گا H4428	לְפָתַח کھولنے-کو H6440	לְפָנָיו اُس-کے-آگے H6440	
דְּלָתִים دروازے H8179	וּשְׁעָרִים اور-پھانک H3808	לֹא نہیں H5462	יִסְגְּרוּ: بند-ہوں-گے H5462					

جائیں ہو تابع تیرے قومیں وہاں جائے تو بھی جہاں لئے اس ہے، لیا پکڑ کو ہاتھ دہنے تیرے نے [میں ہے، فرماتا سے خورس خادم ہوئے کئے مسح اپنے رب
گے۔ رہیں نہیں بند دروازے کے شہر اور گے جائیں کھل دروازے گی، رہے جاتی طاقت کی بادشاہوں گی،

אֲנִי میں H0589	לְפָנָיו تیرے-آگے H6440	אֶלְךָ چلوں-گا H3212	וְהִדְוִימָם اور-ٹیڑھی-جگہیں H1921	אֲוֹשֶׁר [سیدھی-کروں-گا] H3474	דְּלָתוֹת دروازے H5154	נְחֹשֶׁה بیتل-کے H5154	2	
אֲשִׁיר میں-توڑوں-گا H7665	וּבְרִיחִי اور-سانکلیں H1280	בְּרִזְלִי لوہے-کی H1270	אֲנָדָע: میں-کاک-دوں-گا H1438					

گا۔ دوں تڑوا کنڈے تمام کے کر ٹکڑے ٹکڑے دروازے کے بیتل میں گا۔ دوں کر بوس زمین کو بندیوں قلعہ کر جا آگے آگے تیرے خود میں

וְנִתְּנִי اور-میں-دوں-گا H5414	לְךָ تجھے H0214	אֲזַכְּרֹת خزانے H0214	חֲשִׁדָּה اندھیرے-کے H2822	וּמִמְּנִי اور-چھپی-دولت H4301	מִשְׁתָּרִים پوشیدہ-جگہوں-کی H4565	לְמַעַן تاکہ H4616	תִּדְעַ تو-جان-لے H3045	כִּי- کہ- H3045	3	
אֲנִי میں H0589	יְהוָה یہوواہ H3068	הַקּוֹרָא پکارنے-والا H7121	בְּשִׁמָּה تیرے-نام-سے H8034	אֱלֹהֵי خدائے H0430	יִשְׂרָאֵל: اسرائیل H3478					

میں کہ ہے، بلاتا تجھے کر لے نام تیرا جو ہوں رب میں کہ لے جان تو تاکہ گا کروں عطا دولت و مال پوشیدہ اور خزانے چھپے میں اندھیرے تجھے میں
ہوں۔خدا کا اسرائیل

לְמַעַן کی-خاطر H4616	עַבְדִּי میرے-بندے H5650	יַעֲקֹב یعقوب H3290	וְיִשְׂרָאֵל اور-اسرائیل H3478	בְּחִירִי میرے-چنے-ہوئے H0972	וְאֶקְרָא اور-میں-نے-پکارا H7121	לְךָ تجھے H7121	בְּשִׁמָּה تیرے-نام-سے H8034	4	
אֲכַבֵּד میں-نے-خطاب-کیا-تجھے H3655	וְלֹא اگرچہ-نہیں H3808	יְדַעְתִּנִּי: تو-مجھے-جانتا-تھا H3045							

سے نام اعزازی تجھے واسطے کے اسرائیل برگزیدہ اپنے بلایا، تجھے کر لے نام تیرا نے میں خاطر کی یعقوب خادم اپنے لیکن تھا، جانتا نہیں مجھے تو گو
ہے۔نوازا

5	אֲנִי יְהוָה	אֲנִי	אֱלֹהִים	זוֹלָתִי	עוֹד	וְאִין	אֲנִי	יְהוָה
	میں	میں	خدا	میرے-سوا	اور	اور-کوئی-نہیں	اور-کوئی-نہیں	یہوواہ
	H0589	H0247	H0430	H2108	H5750	H0369	H0369	H3068

יְדַעְתִּי:
تو-مجھے-جانتا
H3045

ہوں کرتا کمر بستہ تجھے مَیں تو بھی تھا جانتا نہیں مجھے تُو گو ہے۔ نہیں خدا اور کوئی سوا میرے اور ہوں، رب ہی مَیں

6	לְמַעַן	יָדְעוּ	מִמְזֻרְחָה	שָׁמֶשׁ	וּמִמְעַרְבָּה	כִּי-	אָפֶס	בְּלַעֲרֵי	אֲנִי	יְהוָה
	تاکہ	وہ-جان-لیں	طلوع-	آفتاب-سے	اور-مغرب-تک	کہ-	کوئی-نہیں	میرے-سوا	میں	یہوواہ
	H4616	H3045	H4217	H8121	H4628			H1107	H0589	H3068

وְאִין עוֹד:
اور-کوئی-نہیں اور
H0369 H5750

ہے۔ نہیں اور کوئی سوا میرے اور ہوں، رب ہی مَیں ہے۔ نہیں اور کوئی سوا میرے کہ لیں جان انسان تک مغرب سے مشرق تاکہ

7	יוֹצֵר	אוֹר	ובורא	חֲשֵׁךְ	עֲשָׂה	שָׁלוֹם	ובורא	רַע	אֲנִי	יְהוָה
	بنانے-والا	نور-کا	اور-پیدا-کرنے-والا	اندھیرے-کا	بنانے-والا	سلامتی-کا	اور-پیدا-کرنے-والا	بلا-کا	میں	یہوواہ
	H3335	H0216		H2822		H7965			H0589	H3068

עֲשָׂה כָל- אֱלֹהִים:
کرنے-والا سب- یہ-باتیں
H3605 H0428

ہوں۔ کرتا کچھ سب یہ ہی رب مَیں کرتا، پیدا حالات بُرے اور اچھے ہی مَیں ہوں، لاتا میں وجود کو اندھیرے اور دیتا تشکیل کو روشنی ہی مَیں

8	הֲרַעֲפוּ	שָׁמַיִם	מִזְעַל	וּשְׁחָקִים	יִזְלוּ-	צֶדֶק	הַפְתַּח	אֶרֶץ	וַיִּפְרוּ	יֵשַׁע
	ٹھکاؤ	اے-آسمانوں	اوپر-سے	اور-بادل	برسائیں-	صداقت	کھل-جائے-	زمین	اور-پھلیں-	نجات
	H7491	H8064	H4605	H7834	H5140	H6664		H0776	H6509	H3468

וַצַּדִּיקָה וְרַסְטִיזָא:
اور-راستیازی اگائے
H6666 H6779

مَیں دے۔ پھوٹنے پودا کا راستی اور لائے پھل کا نجات کر کھل زمین برسائے! صداقت بادلو، اے کر! تازہ و تر کو زمین سے باندی بوندا کی راستی آسمان، اے ہوں۔ لایا میں وجود اُسے ہی رب

9	הָזִי	רָב	אֶת-	זָבָדוֹ	חָרֶשׁ	אֶת-	חֲרָשֵׁי	אֲדָמָה	הַיָּאֲמֵר
	افسوس	جھگڑنے-والے-پر	اپنے-بنانے-والے-سے	ٹھیکرا	ٹھیکروں-میں-سے	—	مٹی-کے	مٹی-کے	کیا-کہے-گا
	H1945	H7378	H0854	H3335	H2789	H0854	H2789	H0127	H0559

חָמַר מְתִי:
مٹی اپنے-سانچے-میں-ڈھالنے-والے-سے
H3335 H4100

ہے؟ ربا بنا کیا تُو ہے، پوچھتا سے کمہار گارا کیا ہے۔ ہی ٹھیکرا کا برتنوں بھوٹے ٹوٹے کے مٹی وہ گو ہے، کرتا جھگڑا سے خالق اپنے جو افسوس پر اُس نہیں؟ طاقت کوئی کی اُس ہے، کرتی شکایت میں بارے تیرے چیز کوئی ہوئی بنائی تیری کیا

10	הָזִי	אֲמַר	לְאָב	מָה-	תּוֹלִיד	וּלְאִשָּׁה	מָה-	תְּחִילִין:	ס
	افسوس	کہنے-والے-پر	باپ-سے	کیا-	تو-پیدا-کرتا-ہے	اور-عورت-سے	کیا-	تو-جنتی-ہے	—
	H1945	H0559	H0001	H4100	H3205	H0802	H4100		

ہے؟ ربی دے جنم بچہ کیوں تُو سے، عورت یا ہے؟ ربا بن باپ کیوں تُو کرے، سوال سے باپ جو افسوس پر اُس

11	כֹּה־	אָמַר	יְהוָה	קְדוֹשׁ	יִשְׂרָאֵל	וַיֵּצֵא	הָאֲתִיּוֹת	שָׁפְלָנִי	עַל-
	یوں-	فرماتا-ہے	یہوواہ	قدوس	اسرائیل-کا	اور-اُس-کا-بنانے-والا	آنے-والی-باتیں	مجھ-سے-پوچھو	کے-بارے-میں-
	H3541	H0559	H3068	H6918	H3478	H3335	H0857	H7592	

چنی میرے-بیٹوں اور-کے-بارے-میں- **وَعَل-** **فَعَلَ** کام میرے-ہاتھوں-کے **יָדִי** تم-مجھے-حکم-دو **הִצַּנְנִי:** H6680 H3027 H6467

میرے کچھ جو ہو؟ سکتے کر گچھ پوچھ میری میں بارے کے بچوں میرے طرح کس [] تم ہے، فرماتا ہے والا دینے تشکیل اُسے اور قدوس کا اسرائیل جو رب ہو؟سکتے دے حکم مجھے کیسے تم میں بارے کے اُس بنایا نے ہاتھوں

12	אֲזַכֵּי	עֲשִׂיתִי	אָרֶץ	וְאָדָם	עָלְיָהּ	בְּרֵאתִי	אֲנִי	יָדִי	נָטוּ	שָׁמַיִם	וְכָל-
	میں-نے	بنائی	زمین	اور-آدم-کو	اُس-پر	پیدا-کیا	میں-نے	میرے-ہاتھوں-نے	پھیلائے	آسمانوں-کو	اور-سب-
	H0595	H0776	H0120				H0589	H3027	H5186	H8064	H3605

لشکر-کو-اُن-کے **צָבָאָם** میں-نے-حکم-دیا **צְוִיתִי:** H6680

کے ستاروں کے اُس نے ہی میں اور لیا تان اوپر کے اُس طرح کی خیمے کو آسمان نے ہاتھوں اپنے میرے کیا۔ خلق پر اُس کو انسان کر بنا کو زمین نے ہی میں دیا۔ترتیب کو لشکر پورے

13	אֲזַכֵּי	הַעִירָתְהוּ	בְּצֹדֶק	וְכָל-	דְּרָכָיו	אֲיֹשֶׁר	הוּא-	יִבְנֶה		
	میں-نے	اُسے-اُٹھایا	راستبازی-سے	اور-سب-	راستوں-کو-اُس-کے	میں-سیدھا-کروں-گا	وہ-	تعمیر-کے-گا		
	H0595	H5782	H6664	H3605	H1870	H3474	H1931	H1129		
	عִירִי	וְנְלוֹתֶיהָ	יְשַׁלַּח	לֹא	בְּמַחִיר	וְלֹא	בְּשָׂחָד	אָמַר	יְהוָה	צְבָאוֹת:
	میرا-شہر	اور-میرے-جلاوطنوں-کو	رہا-کے-گا	نہ	قیمت-پر	اور-نہ	رشوت-پر	فرماتا-ہے	یہوواہ	لشکروں-کا
		H1546	H7971	H3808	H4242	H3808	H7810	H0559	H3068	

ד
—

میرے اور گا کرے تعمیر سے سرے نئے کو شہر میرے وہ ہوں۔ دیتا بنا سیدھے راستے تمام کے اُس ہی میں اور دیا، جگا سے انصاف کو خورس نے ہی میں ہے۔فرمان کا الافواج رب یہ تحفے۔ [] نہ گا، لے پیسے وہ نہ گا، ہو میں مفت کچھ سب یہ اور گا۔ کرے آزاد کو جلاوطنوں

14	אֶזְכָּר	אָמַר	יְהוָה	וַיֵּיעַ	מִצְרַיִם	וְסָבְאִים	אֲנָשִׁי	מְדָה	עָלְיָהּ		
	یوں	فرماتا-ہے	یہوواہ	محنت	مصر-کی	اور-تجارت-	کوش-کی	اور-سبائی	لوگ	لمے-قد-کے	تیرے-پاس
	H3541	H0559	H3068	H3018	H4714	H5505	H5436	H0376			
	יַעֲבְדוּ	וְלֹא	יְהוָה	אֶחָרִיף	יִלְכּוּ	בְּזָקִים	יַעֲבְרוּ	וְאֵלֶיךָ	יִשְׁתַּחֲוּוּ	אֵלֶיךָ	
	آئیں-گے	اور-تیرے	ہوں-گے	تیرے-پیچھے	چلیں-گے	زنجیروں-میں	آئیں-گے	اور-تیرے-آگے	جھکیں-گے	تجھ-سے	
			H1961		H3212			H0413	H7812	H0413	

منت-کریں-گے **יִתְפַּלְלוּ** یقیناً **אֵל** تجھ-میں **בְּךָ** **אֵל** اور-کوئی-نہیں **וְאֵין** **עוֹד** **אֶפְסָס** **אֵלֶיהֶם:** H6419 H0389 H0410 H5750 H0369 H0430

گے، چلیں پیچھے تیرے وہ گے۔ جائیں بن ملکیت تیری کر ہو ماتحت تیرے افراد درازقد کے سب اور مال تجارتی کا ایتھوپیا دولت، کی [] مصر ہے، فرماتا رب ہے خدا اور کوئی سوا کے اُس ہے۔ ساتھ تیرے اللہ [] یقیناً گے، کہیں کے کر التماس وہ کر جھک سامنے تیرے گے۔ جائیں ہو تابع تیرے جگڑے میں زنجیروں نہیں۔ []

15	אֶזְכָּר	אֶתְּךָ	אֵל	מִסְתַּתֵּר	אֵלֶיךָ	יִשְׂרָאֵל	מוֹשִׁיעַ:
	بے-شک	تو	خدا-ہے	چھپا-ہوا	خدائے	اسرائیل	نجات-دہندہ
	H0403	H0410	H5641	H0430	H3478	H3467	

ہے۔خدا والا رکھنے چھپائے کو آپ اپنے ٹو یقیناً دہندہ، نجات اور خدا کے اسرائیل اے

16	בָּוֶשׁוּ	וְגַם-	נִכְלְמוּ	כָּלָם	יַחְדָּו	הִלְכוּ	בְּכִלְמוֹהָ	חָרְשֵׁי	צִירִים:
	شرمندہ ہوئے	اور-بھی-	رسوا ہوئے	سب	اکٹھے	چلے-گئے	ذلت-میں	بنانے-والے	بتوں-کے
	H0954	H1571	H3637	H3605		H1980	H3639	H2796	H6736

گئے۔ جائیں چلے میں حالت سار شرم کر مل وہ اور گئے، جائیں ہو کالے منہ کے اُن گئے۔ جائیں ہو شرمندہ سب والے بنانے بُت

17	יִשְׂרָאֵל	נֹשֵׁעַ	בֵּיהוָה	תְּשׁוּעַת	עוֹלָמִים	לֹא-	תִבְשׁוּ	וְלֹא-	תִכְלְמוּ
	اسرائیل	نجات-پاتا-ہے	یہوواہ-میں	نجات	ابدی	نہیں-	تم-شرمندہ-ہو-گے	اور-نہیں-	تم-رسوا-ہو-گے
	H3478	H3467	H3068	H8668	H5769	H3808	H0954	H3808	H3637

ع-	ع-	ع-:	פ
تک-	ابد	ابدی	—
H5704	H5769	H5703	

گئے۔ ربو محفوظ سے ہونے شرمندہ تک ہمیشہ تم گی، ہو نہیں کبھی رُسوائی تمہاری تب گا۔ دے نجات ابدی اُسے رب گا، ملے چھٹکارا کو اسرائیل لیکن

18	כִּי	כֹּה	אָמַר-	יְהוָה	בּוֹרֵא	הַשָּׁמַיִם	הוּא	הַאֱלֹהִים	יָצָר	הָאָרֶץ
	کیونکہ	یوں	فرماتا-ہے-	یہوواہ	پیدا-کرنے-والا	آسمانوں-کا	وہ	خدا	بنانے-والا	زمین-کا
		H3541	H0559	H3068		H8064	H1931	H0430	H3335	H0776

اور-اُس-کا-بنانے-والا	وہ	اُسے-قائم-کرنے-والا	نہیں-	بے-فائدہ	اُس-نے-پیدا-کی	بسنے-کے-لیے	اُس-نے-بنائی	میں
H1931	H3808	H8414	H3335	H3427	H0589			

יְהוָה	וְאֵין	עוֹד:
یہوواہ	اور-کوئی-نہیں	اور
H3068	H0369	H5750

تشکیل کو زمین اور کیا خلق کو آسمان نے جس ہے، خدا وہ بے فرماتا یہ جو ہے! نہیں اور کوئی سوا میرے اور ہوں، رب ہی میں ہے، فرماتا رب کیونکہ سکیں۔ رہ میں اُس جاندار تاکہ دیا بنا قابل کے بسنے اُسے نے اُس بلکہ ربی نہ بیابان سنسان زمین اور رکھا۔ پر بنیاد محفوظ کر دے

19	לֹא	בְּסֹתֵר	דִּבְרָתִי	בְּמִקּוֹם	אֶרֶץ	חֶשֶׁךְ	לֹא	אֶמְרָתִי	לִירַע	יַעֲקֹב
	نہیں	پوشیدگی-میں	میں-نے-بات-کی	جگہ-میں	زمین-کی	تاریک	نہیں	میں-نے-کہا	نسل-سے	یعقوب-کی
	H3808		H1696	H4725	H0776	H2822	H3808	H0559	H2233	H3290

תָּהוּ	בְּקִשְׁוֵנִי	אֲנִי	יְהוָה	דִּבְרִי	צֶדֶק	מוֹדֵר	מִיִּשְׁרָיִם:
بے-فائدہ	مجھے-ڈھونڈو	میں	یہوواہ	بولنے-والا	سچائی	بتانے-والا	راستی
H8414	H1245	H0589	H3068	H1696	H6664	H5046	H4339

تم لیکن کرو، تلاش مجھے میں شک کہا، نہیں بھی یہ سے اولاد کی یعقوب نے میں کی۔ نہیں بات سے کونے تاریک کسی کے دنیا یا میں پوشیدگی نے میں ہے۔ کرتا اعلان کا سچائی کرتا، بیان انصاف جو ہوں، ہی رب میں نہیں، گئے۔ پاؤ نہیں مجھے

20	הַקְּבָצוּ	וְכָאוּ	הַתְּנַנְשׁוּ	יַחְדָּו	פְּלִיטִי	הַגּוֹיִם	לֹא	יָרְעוּ	הַנְּשָׂאִים	אֶת-	עַץ
	جمع-ہو	اور-اُو	قریب-اُو	اکٹھے	بچے-ہوئے	قوموں-کے	نہیں	جانتے	اُنھانے-والے	—	لکڑی
	H6908	H0935	H5066				H3808	H3045	H5375	H0853	H6086

פְּסָלִים	וּמִתְפַּלְלִים	אֶל-	אֵל	לֹא	יֹושִׁיעַ:
اپنے-بتوں-کی	اور-دعا-کرنے-والے	—	خدا-سے	جو-نہیں	بچاتا
H6459	H6419	H0413	H0410	H3808	H3467

نہیں کچھ وہ ہیں پھرتے لئے ساتھ اپنے کر اُنھا بُت کے لکڑی جو جاؤ! ہو حاضر حضور میرے کر مل جاؤ۔ ہو جمع اُو، ہو نکلے بچ سے افوام دیگر جو تم ہیں؟ کرتے التجا کیوں وہ سے اُن سکتے دے نہیں چھٹکارا دیوتا جو جانتے!

21	הַיָּדוּדִים	וְהַזֵּשׁוּ	אָרַךְ	יִדְעֻנָּהּ	יַחֲדוּ	מִי	הַשְּׂמִיעַ	זֹאת	מִקְדָּם	מֵאַזְ
	بتاؤ	اور-پیش-کرو	ہاں	وہ-مشورہ-کریں	اکٹھے	کس-نے	سنایا	یہ	قدیم-سے	اُس-وقت-سے
	H5046	H5066	H0637	H3289		H4310	H8085	H2063		

	הַיָּדוּדִים	הַלֹּא	אֲנִי	יְהוָה	וְאִין-	עוֹד	אֱלֹהִים	מִבְּלִעְדֵי	אֶל-	צְדִיק	וּמִזֵּשׁוּ
	بتایا	کیا-نہیں	میں	یہوواہ	اور-کوئی-نہیں-	اور	خدا	میرے-سوا	خدا-	راستباز	اور-نجات-دہندہ
	H5046	H3808	H0589	H3068	H0369	H5750	H0430	H1107	H0410	H6662	H3467

אִין
 کوئی-نہیں
 میرے-سوا
[H2108](#)
[H0369](#)

عرصہ طویل نے رب میں، کیا تھا؟ سنایا کچھ یہ پہلے دیر بڑی نے کس کرو۔ مشورہ سے دوسرے ایک پہلے بے شک کرو! پیش دلائل اپنے سناؤ، معاملہ اپنا آؤ، بے-نہیں اور کوئی سوا میرے ہوں۔ دہندہ نجات اور خدا راست میں ہے۔ نہیں خدا اور کوئی سوا میرے کیونکہ تھا؟ کیا نہیں اعلان کا اس پہلے

22	פָּנוּ-	אֵלַי	וְהוֹשְׁעוּ	כָּל-	אֶפְסֵי-	אֶרֶץ	כִּי	אֲנִי-	אֵל	וְאִין
	رجوع-کرو-	میری-طرف	اور-نجات-پاؤ	سب-	کناروں-	زمین-کے	کیونکہ	میں-	خدا-ہوں	اور-کوئی-نہیں
	H6437	H0413	H3467	H3605		H0776		H0589	H0410	H0369

עוֹד:
 اور
[H5750](#)

بے-نہیں اور کوئی سوا میرے ہوں، خدا ہی میں کیونکہ پاؤ! نجات کے کر رجوع طرف میری سب انتہاؤ، کی زمین اے

23	כִּי	נִשְׁבַּעְתִּי	יָצָא	מִפִּי	צְדָקָה	דָּבָר	וְלֹא	יָשׁוּב	כִּי-	לִי
	اپنی-	میں-نے-قسم-کھائی	نکلا	میرے-منہ-سے	صداقت-کا	کلام	اور-نہیں	واپس-ہو-گا	کہ-	میرے-آگے
		H7650	H3318	H6310	H6666	H1697	H3808	H7725		

הַכָּרַע
 جھکے-گا
 کچھنا
 قسم-کھائے-گی
 ہر-
 کچھنا
 لָשׁוֹן:
 زبان
[H3766](#)
[H3605](#)
[H1290](#)
[H7650](#)
[H3605](#)
[H3956](#)

ہر اور گا جھکے گھٹنا ہر سامنے میرے کہ ہے یہ فرمان گا۔ ہو نہیں منسوخ کبھی وہ ہے، راست فرمان میرا اور ہے، فرمایا کر کھا قسم کی نام اپنے نے میں کر کھا قسم میری زبان

24	אָרַךְ	בֵּיהוָה	לִי	אָמַר	צְדָקוֹת	וְעַז	עֲדִיו	יָבִיא	וַיִּזְשׁוּ	כָּל
	صرف	یہوواہ-میں	میرے-لیے	کہا	راستبازی	اور-طاقة-ہے	اُس-کے-پاس	آئے-گا	اور-شرمندہ-ہوں-گے	سب
	H0389	H3068		H0559	H6666	H5797	H5704	H0935	H0954	H3605

הַנְּחָרִים
 غصے-والے
 اُس-پر
[H2734](#)

گے۔ آئیں حضور کے اُس کر ہو شرمندہ سب بھی وہ تھے کرتے مخالفت کی رب کر آ میں طیش پہلے جو ہے! منبع کا قوت اور راستی ہی رب گی، کہے

25	בֵּיהוָה	יִצְדָּקוּ	וַיִּתְחַלְּלוּ	כָּל-	יָרַע	יִשְׂרָאֵל:
	یہوواہ-میں	راستباز-ٹھہریں-گے	اور-فخر-کریں-گے	سب-	نسل	اسرائیل-کی
	H3068	H6663		H3605	H2233	H3478

گی۔ کرے فخر پر اُس کر ٹھہر باز راست میں رب اولاد تمام کی اسرائیل لیکن